



اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

لوگوں کا حساب (اعمال کا وقت) نزدیک آ پہنچا ہے
اور وہ غفلت میں (پڑے اس سے) منہ پھیر رہے ہیں

Quran with Urdu Translation

Fateh Muhammad Jalundhari

(فتح محمد جالندھری)

سورة الانبياء

اردو ترجمہ Urdu Translation

Click This Bar to Listen Audio

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ (1)

لوگوں کا حساب (اعمال کا وقت) نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں (پڑے اس سے) منہ پھیر رہے ہیں

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2)

ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں

لَا هِيَةٌ قُلُوبُهُمْ

ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں

وَأَسْرُوا النَّجُوسِي الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ^ص

اور ظالم لوگ (آپس میں) چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ (شخص کچھ بھی) نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے

أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3)

تو تم آنکھوں دیکھتے جادو (کی لپیٹ) میں کیوں آتے ہو؟

قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ^ص

(پیغمبر نے) کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں (کہی جاتی) ہے، میرا پروردگار اسے جانتا ہے

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4)

اور وہ سنے والا اور جاننے والا ہے

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ

بلکہ (ظالم) کہنے لگے کہ (یہ قرآن) پریشان (باتیں ہیں جو) خواب (میں دیکھی) ہیں

بَلِ افْتَرَاهُ

(نہیں) بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے

بَلْ هُوَ شَاعِرٌ

(نہیں) بلکہ یہ (شعر جو اس) شاعر (کا نتیجہ طبع) ہے

فَلْيَأْتِنَا بآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ (5)

تو جیسے پہلے (پیغمبر نشانیاں دے کر) بھیجے گئے تھے (اسی طرح) یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا^ص

ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی تھیں

أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (6)

تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ^ط

اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی (پیغمبر بنا کر) بھیجے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے

فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (7)

اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (8)

اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ

پھر ہم نے ان کے بارے میں (اپنا) وعدہ سچا کر دیا

فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (9)

تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ^ط

ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے

أَفَلَا تَعْقِلُونَ (10)

کیا تم نہیں سمجھتے؟

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً

اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو سنگار تھیں ہلاک کر مارا

وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (11)

اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیئے

فَلَمَّا أَحْسَبُوا أَنَّ بَأْسَنَا إِذْ أَهْمُ مِنْهَا يَرُّ كُضُوبَ (12)

جب انہوں نے ہمارے (مقدمہ) عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے

لَا تَرُّ كُضُوبًا

مت بھاگو

وَأَرْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِينَكُمْ

اور جن (نعمتوں) میں تم عیش و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ،

لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ (13)

شاید تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (14)

کہنے لگے ہائے شامت بے شک ہم ظالم تھے

فَمَا زَالَتِ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ

تو وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے

حَتَّىٰ جَعَلْنَا لَهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (15)

یہاں تک کہ ہم نے ان کو (کھیتی کی طرح) کاٹ کر (اور آگ کی طرح) بجھا کر ڈھیر کر دیا

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا عِبِينَ (16)

اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو (مخلوقات) ان دونوں کے درمیان ہے اسکو لہو و لعب کے لئے پیدا نہیں کیا

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلِهَةً تَأْخُذُ بِنَاكُمْ مِنْ لَدُنَّا إِنَّ كُنَّا قَائِلِينَ (17)

اگر ہم چاہتے کہ کھیل (کی چیزیں یعنی زن و فرزند) بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے

بَلْ نَقْذِرُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

(نہیں) بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اسکا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے

وَلَكُمْ الْوَيْلُ بِمَا تَصِفُونَ (18)

اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری خرابی ہے

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور جو لوگ آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اسی کے (مملوک اور اسی کے مال) ہیں۔

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19)

اور جو (فرشتے) اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ کتراتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (20)

رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں (نہ تھکتے ہیں) نہ اکتاتے ہیں

أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ (21)

بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے (بعض کو) معبود بنا لیا ہے (تو کیا) وہ انکو (مرنے کے بعد) اٹھا کھڑا کریں گے؟

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا

اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو (زمین و آسمان) درہم برہم ہو جاتے۔

فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (22)

جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں خدائے مالک عرش ان سے پاک ہے

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ

وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی

وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23)

اور (جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی) ان سے پرسش ہوگی

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً

کیا لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر معبود بنا لیے ہیں؟

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

کہہ دو کہ (اس بات پر) اپنی دلیل پیش کرو

هَذَا إِذْ كُرُّ مِنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي

یہ (میری اور) میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے اور جو مجھ سے پہلے (پیغمبر) ہوئے ہیں انکی کتابیں بھی ہیں

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24)

بلکہ (بات یہ ہے کہ) ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لئے منہ پھیر لیتے ہیں

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ

اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ

أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (25)

میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا

اور کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے

سُبْحَانَهُ

وہ پاک ہے (اسکے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی)

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَهُونَ (26)

بلکہ (جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے اور بیٹیاں سمجھتے ہیں) وہ اس کے عزت والے بندے ہیں

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27)

اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہو گا وہ سب سے واقف ہے

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ

اور وہ (اسکے پاس کسی کی) سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے خدا خوش ہوا

وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28)

اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِيَّايَ إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلْيَاكُفِّرْ بِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ يُغْزِيهِمْ جَهَنَّمَ

اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ خدا کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے

كَذَلِكَ يُغْزِي الظَّالِمِينَ (29)

(اور) ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمْآ

کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا؟

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ^ط

اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں

أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30)

پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاوِاسِي أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ

اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں (کے بوجھ) سے ہلنے (اور جھکنے) نہ لگے

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (31)

اور اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا^ط

اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا

وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ (32)

اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ^ط

اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (33)

(یہ) سب (یعنی سورج اور چاند اور ستارے) آسمان میں (اس طرح چلتے ہیں گویا) تیر رہے ہیں

وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرَ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ^ط

اور (اے پیغمبر) ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا

أَقْبَانٍ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34)

بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ^ط

ہر تنفس کو موت کا مزہ اچکھنا ہے

وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً^ط

اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں

وَالْيَنَائِتُ جُوعُونَ (35)

اور تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے

وَإِذْ أَرَأَىٰ آلَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ يَتَّخِذُونَكَ إِلهًا وَّهٰؤُلَاءِ

اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے استہزاء کرتے ہیں کہ

أَهْدَا الَّذِي يَدُّكُمْ أَهْلَكُمْ

کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر (برائی سے) کیا کرتا ہے؟

وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ (36)

حالانکہ وہ خود رحمن کے نام سے منکر ہیں

مُخْلِقِ الْإِنْسَانِ مِنْ عَجَلٍ^ج

انسان (کچھ جلد باز ہے کہ گویا) جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے

سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ (37)

میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھلاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38)

اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو (جس عذاب کا) یہ وعید (ہے وہ) کب آئے گا

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ

اے کاش کافراں وقت کو جانیں جب وہ اپنے منہوں پر سے
(دوزخ کی) آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھ پر سے

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (39)

اور نہ ان کا کوئی مددگار ہو گا

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَعۜثَةٌ فَيَقۜتِلۜوۜنَّهَا

بلکہ (قیامت) ان پر ناگہاں آواچ ہوگی اور انکے ہوش کھو دے گی

فَلَا يَسۜتۜطۜيۜعۜونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنۜظَرُونَ (40)

پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی

وَلَقَدِ اسۜتۜهۜزۜیۜ بۜرۜسۜلٍ مِّنۢ مَّۜنۜ قَبۜلِكَ

اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ استہزاء ہوتا رہا ہے

فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمۜ مَا كَانُوا بِهِ يَسۜتۜهۜزُۜونَ (41)

تو جو لوگ ان میں تمسخر کیا کرتے تھے، ان کو اسی (عذاب) نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آگھیرا

قُلۜ مَنْ يَّكۜلُوكُمۜ بِاللَّيۜلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحۜمٰنِ

کہو کہ رات اور دن میں خدا سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے؟

بَلۜ هُمۜ عَنْ ذِكۜرِ رَبِّهِمۜ مُّعۜرِضُونَ (42)

بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا

کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو (مصائب سے) بچا سکیں؟

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِمَّا يُصْحَبُونَ (43)

وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکتے اور نہ ہم سے پناہ میں دیئے جائیں گے

بَلْ مَتَّعْنَاهُمَا هُوَ لِآبَاءِهِمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ

بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے یہاں تک کہ (اسی حالت میں) ان کی عمریں بسر ہو گئیں،

أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا

کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟

أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ (44)

تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ

کہہ دو کہ میں تم کو حکم خدا کے مطابق نصیحت کرتا ہوں

وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ (45)

اور بہروں کو جب نصیحت کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں

وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ

اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ

يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (46)

ہائے کبجختی ہم بیشک ستمگار تھے

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا^ط

اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی

وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا^ط

اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی (کسی کا عمل) ہو گا تو ہم اس کو لاکھ حاضر کریں گے

وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ (47)

اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا

اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو (ہدایت و گمراہی میں) فرق کر دینے والی اور (سرتاپا) روشنی اور نصیحت (کی کتاب) عطا کی

لِلْمُتَّقِينَ (48)

(یعنی) پرہیزگاروں کے لئے

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (49)

جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں

وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ^ج

اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے

أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ (50)

تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (51)

اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ

جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ

مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (52)

یہ کیا صورتیں ہیں جن (کی پرستش) پر تم معتکف (واقف ہو)؟

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (53)

وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے باپ داد کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (54)

(ابراہیم نے) کہا کہ تم بھی (گمراہ ہو) اور تمہارے باپ داد بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (55)

وہ بولے کیا تم ہمارے پاس (واقعی) حق لائے ہو یا (ہم سے) کھیل (کی باتیں) کرتے ہو؟

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ

(ابراہیم نے) کہا (نہیں) بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے

وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56)

اور میں اس (بات) کا گواہ (اور اسی کا قائل) ہوں

وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57)

اور خدا کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا

فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِذْ لَا كِبِيرَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (58)

پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے (بت) کو (نہ توڑا) تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں

قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا

کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟

إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (59)

وہ تو کوئی ظالم ہے

قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَدُكُرُهُمْ

لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے

يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (60)

اس کو ابراہیم کہتے ہیں

قَالُوا أَفَأَتُوا بِهٍ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (61)

وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تا کہ وہ گواہ رہیں

قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ (62)

(جب ابراہیم آئے توبت پرستوں نے) کہا کہ ابراہیم! بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا ہے؟

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا

(ابراہیم نے) کہا (نہیں) بلکہ یہ ان کے اس بڑے (بت) نے کیا (ہوگا)

فَأَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (63)

اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (64)

انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو

ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ (65)

پھر (شرمندہ ہو کر) سر نیچا کر لیا (اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ) تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ (66)

(ابراہیم نے) کہا پھر تم خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے
ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟

أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

تف ہے تم پر اور جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو ان پر بھی،

أَفَلَا تَعْقِلُونَ (67)

کیا تم عقل رکھتے؟

قَالُوا احْزِقُوهُ وَاَنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (68)

(تب وہ) کہنے لگے کہ اگر تمہیں (اس سے اپنے معبود کا انتقام
لینا اور) کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ (69)

ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر (موجب) سلامتی (بن جا)

وَاَرَادُوا اِيَّاهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْاَحْسَرِينَ (70)

ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا

وَجَعَلْنَاهُمْ لوطًا إِلَى الْاَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (71)

اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لئے برکت رکھی ہے

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً^{صل}

اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کئے اور مستزاد براہ یعقوب

وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (72)

اور سب کو نیک بخت کیا

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا

اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ^{صل}

اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا

وَكَانُوا النَّاعِبِينَ (73)

اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے

وَلَوْ طَآءَنَّا لَكُنَّاكُمْ وَكُلَّمَا

اور لو ط (کاقصہ یاد کرو) جب انکو ہم نے حکم (حکمت و نبوت) اور علم بخشا

وَجَعَلْنَاكَ مِنَ الْفَرِيقِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ^{صل}

اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے 'بچا نکالا،

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فَاسْقِينِ (74)

بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے

وَأَدْخَلْنَاكَ فِي رَحْمَتِنَا^{صل}

اور انہیں اپنی رحمت کے (محل میں) داخل کیا،

إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (75)

کچھ نہیں کہ وہ نیک بختوں میں تھے

وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ

اور نوح (کا قصہ بھی یاد کرو) جب (اس سے) پیشتر انہوں نے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76)

اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی

وَنَصْرْنَا لَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی،

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (77)

وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ

اور داؤد اور سلیمان (کا حال بھی سن لو کہ) جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصلہ کرنے

لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں (اور اسے روند گئی) تھیں

وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78)

اور ہم ان کے فیصلہ کے وقت موجود تھے

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ

تو ہم نے فیصلہ (کرنے کا طریق) سلیمان کو سمجھا دیا

وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

اور ہم نے دونوں کو حکم (یعنی حکمت و نبوت) اور علم بخشا تھا

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ^ج

اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور جانوروں کو بھی (مسخر کر دیا تھا)

وَكَتَابْنَا عِلِينَ (79)

اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ^ص

اور ہم نے تمہارے لئے ان کو ایک (طرح کا) لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم لڑائی کے ضرر سے بچائے،

فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ (80)

پس تم کو شکر گزار ہونا چاہئے

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا^ج

اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع (فرمان) کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی (یعنی شام)

وَكَتَابْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (81)

اور ہم ہر چیز سے خبر دار ہیں

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ^ص

اور دیوؤں (کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان) میں سے بعض ان کے لئے غوطہ مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے

وَكَتَابْنَا لَهُمْ حَافِظِينَ (82)

اور ہم ان کے نگہبان تھے

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَيُّ مَسْكِينٍ الضُّرُّ

اور ایوب (کو یاد کرو) جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے

وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83)

اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ^{صل}

تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی

وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا

اور ان کو بال بچے عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور (بخشے)

وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ (84)

اور عبادت کرنے والوں کے لئے یہ نصیحت ہے

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ^{صل}

اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو (بھی یاد کرو)

كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (85)

یہ سب صبر کرنے والے تھے

وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا^{صل}

اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا،

إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (86)

بلاشبہ وہ نیکوکار تھے۔

وَدَا التُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاظِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ

اور ذوالنون کو (یاد کرو) جب وہ (اپنی قوم سے ناراض ہو کر) غصے کی حالت میں چل دیئے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پاسکیں گے،

فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ

آخر اندھیرے میں (خدا کو) پکارنے لگے کہ

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87)

تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے (اور) بیشک میں قصور وار ہوں

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَجَجَبْنَا لَهُ مِنَ الْعَذَابِ

تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی

وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (88)

اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا

اور زکریا کو (یاد کرو) جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑو

وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89)

اور تو سب سے بہتر وارث ہے

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ

تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشا اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبًا وَرَهَبًا

یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے

وَكَانُوا النَّاسِ حَاشِعِينَ (90)

اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے

وَالَّتِي أَحْصَيْتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا

اور ان (مریم) کو (بھی یاد کرو) جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی

وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ (91)

اور ان کو ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لئے نشانی بنا دیا

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے

وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92)

اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری ہی عبادت کیا کرو

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ^ص

اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے

كُلُّ الْيَتِيمَآءِ اِجْعُونَ (93)

(مگر) سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ

جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہو گا تو اس کی کوشش رائیگاں نہ جائے گی

وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ (94)

اور ہم اس کے لئے (ثواب اعمال) لکھ رہے ہیں

وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (95)

اور جس بستی (والوں) کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ

(وہ دنیا کی طرف رجوع کریں) وہ رجوع نہیں کریں گے

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (96)

یہاں تک کہ یا جوج اور ما جوج کھول دیئے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارِ الَّذِينَ كَفَرُوا

اور (قیامت کا) سچا وعدہ قریب آجائے تو ناگاہ کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں

يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا

(اور وہ کہنے لگیں کہ) ہائے شامت ہم اس (حال) سے غفلت میں رہے

بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (97)

بلکہ ہم (اپنے حق میں) ظالم تھے

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (98)

(کافر اس روز) تم اور جن کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ

کا ایندھن ہونگے (اور) تم (سب) اس میں داخل ہو کر رہو گے

لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا^ص

اگر یہ لوگ (درحقیقت) معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے

وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ (99)

اور سب اس میں ہمیشہ (جلتے) رہیں گے

لَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (100)

وہاں ان کو چلانا ہو گا اور اس میں (کچھ) نہ سن سکیں گے

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101)

جن لوگوں کے لئے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا^ط

(یہاں تک کہ) اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے،

وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102)

اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں (یعنی ہر طرح کے عیش اور لطف میں) ہمیشہ رہیں گے

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ

ان کو (اس دن کا) بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا،

وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103)

اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے (اور کہیں گے) یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ^ج

جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں جیسے خطوں کا طومار لپیٹ لیتے ہیں،

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ^ج

جس طرح ہم نے (کائنات کو) پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے

وَعَدًّا عَلَيْنَا^ج

(یہ) وعدہ (جس کا پورا کرنا لازم) ہے،

إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (104)

ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (105)

اور ہم نے نصیحت (کی کتاب یعنی تورات) کے بعد زبور میں

إِنَّ فِي هَذَا بَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ (106)

عبادت کرنے والے لوگوں کے لئے اس میں (خدا کے حکموں کی) تبلیغ ہے

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (107)

اور (اے محمد!) ہم نے تم کو تمام جہاں کے لئے رحمت (بنا کر) بھیجا ہے

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ^{صلی}

کہہ دو کہ مجھ پر (خدا کی طرف سے) یہ وحی آئی ہے کہ تم سب کا معبود خدائے واحد ہے،

فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (108)

تو تم کو چاہئے کہ فرمانبردار ہو جاؤ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَنُفِخَ بِالسُّؤْفَاءِ^{صلی}

پس اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں (احکام الہی) سے آگاہ کر دیا ہے

وَإِنْ أَدْرَبِيَ أَبْصَارُكَ فَأَمَّا بَعِيدٌ مَّا تُوَعَّدُونَ (109)

اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا

ہے (عن) قریب (آنیوالی) ہے یا (اس کا وقت) دور ہے

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (110)

جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے

وَإِنْ أَدْرَبِيَ لِعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (111)

اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لئے آزمائش ہو اور ایک مدت تک (تم اس سے) فائدہ (اٹھاتے رہو)

قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ

(پیغمبر نے کہا) کہ اے میرے پروردگار! حق کے ساتھ فیصلہ کر دے

وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ (112)

اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔



© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com